

Jesus. (6) The Methodological Features of the Farahi School of Thought.

دونوں اسکالرس کے سپروائزر بالترتیب ڈاکٹر داؤد الاعلیٰ رحالی اور پروفیسر منا صدیقی رہے ہیں۔ اول الذکر کو ۲۰۱۰ء اور ثانی الذکر کو ۲۰۱۲ء میں پی اچ ڈی کی ڈگری تفویض ہوئی تھی۔

(ادارہ علوم القرآن کی لائبریری میں مذکورہ بالا دونوں تھیس کی فوٹو کا پی استفادہ کے لیے دستیاب ہے)۔

سو زبانوں میں ترجمہ قرآن کی اشاعت کا منصوبہ

گزشتہ پانچ برسوں سے ترکی حکومت عالمی مسابقه حفظ قرآن کا اہتمام کر رہی ہے۔ اس میں ۲۲ ممالک کے حفاظ شریک ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں اسی مناسبت سے انقرہ میں تقیم انعامات کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ جس میں ترکی میں دینی امور کے انچارج محمد غورمان اور صدر مملکت رجب طیب اردوگان بھی شریک ہوئے۔ صدر نے اپنے خطاب میں کہا کہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہماری زندگی کا مقصد اولین ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے دلوں کا ترکیہ اسی کتاب سے ہو سکتا ہے۔ محمد غورمان نے کہا کہ شعبہ دینی امور کی جانب سے دنیا کی ۲۵ زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم شائع کئے جا پچے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ دو سالوں میں دنیا کی سو مختلف زبانوں میں ترجمہ قرآن شائع کیا جائے اور اس کو دنیا کے ہر ملک اور ہر شہر و بستی میں پہنچانے کا عزم کیا جائے۔ اس کے لیے ”میرا تھنہ قرآن مجید ہو گا“ کے سلوگن کے تحت رقم کی فراہمی کی مہم شروع کی جا چکی ہے جس میں تمام ہم وطن مسلمان دل کھول کر حصہ لے رہے ہیں۔ (معارف، جولائی ۲۰۱۷ء)

دنیا کا پہلا مختلط قرآن

پاکستان کے شہر کراچی کے کورنگی علاقہ میں رہنے والی خاتون زمرد خان نے